



MOHAMMED SHOE B FARUQUI

PLOT 35/C/2 PECHS

CNIC No. Not Available .FED: NOORANI KABAB

Consumer No.: LA727026 | Contract No. 31193014

Dispatch ID: 081462041

Commercial A2-B


Current Month موجودہ مہینہ 31°C avg temp
1,587 Units = Rs. 72,715.74

Last Month 31°C avg temp
پچھلا مہینہ

1518 Units ↑5%*

% Change in consumption from *last month / **last year same month
% کے لحاظ سے بجلی کے استعمال میں پچھلے مہینے سے پچھلے سال اسی مہینے میں تبدیلی

13-Month Usage History تفصیل 13 مہینے کے استعمال کی تفصیل
2021



Billing & Payment History بلنگ اور ادائیگی کی تفصیل

MM / YY	Billed Amount	Pay-Date	Payment
06/22	60,429.62	27-Jun-22	60,430.00
05/22	28,959.61	26-May-22	28,959.00
04/22	35,677.27	26-Apr-22	35,677.00

Payment Channels ادائیگی بڑیوے



Scan to Pay your Bill



This is an electricity bill. Consumer name and address mentioned therein does not constitute proof of title/ownership of property.



Customer's Name
Account Number
Contract Number

MOHAMMED SHOE B FARUQUI
0400012339176
31193014



Please do not stamp on the bar code.

Reach K-Electric Limited

E-Bill

Customer Care Centre Bahadurabad

SNCC F-23/8 Jinnah CHS , Block 7/8 Main Tipu Sultan Road

Scan Me



0348-0000118



REGISTER YOURSELF



www.ke.com.pk



customer.care@ke.com.pk



118 RESPONSE CENTRE



@KElectricPK



@KElectricPK

KE GST No. 12-00-2716-007-28

KE NTN No. 1543137-1

Please be informed that KE's responsibility is restricted to supply to the meter. Any internal wiring of the premises as well as the installation of appliances is at the customer's risk and responsibility alone.
کے ای کی ذمہ داری میٹر تک محدود ہے۔ اپنے گھر کے برقی آلات کی تنصیب اور تھکنگ کی ذمہ داری صارف کے اوپر عائد ہے۔

Account Number
0400012339176



Invoice Number
560012398936

Issue Date
13-Jul-2022

Bill Month
Jul-2022

Amount Payable واجب الادا رقم
Rs. 76,608

For details, please see back of the bill. بل کی مزید تفصیلات پشت پر ملاحظہ فرمائیں

Please pay within due date
and save

Rs. 4,678.79

برائے کرم مقررہ تاریخ تک بل ادا کر کے بچت کریں

Due Date
**27th
July
2022**
مقررہ تاریخ

Amount Payable after Due Date مقررہ تاریخ کے بعد واجب الادا رقم
Rs. 81,287

Pay your KE Bill via UPaisa and get **Rs. 100 cash back**

Offer valid from 1st July 2022 to 15th August 2022

* Terms & Conditions apply.

Invoice Number
560012398936

Due Date
27-Jul-22

Within Due Date
Rs. 76,608

After Due Date
Rs. 81,287

Bank Clearance / Signature

Your Current Bill Calculation آپ کے موجودہ بل کا حساب

Bill Charge Mode. NORM
Meter No. TL97104
Reading Date 09-Jul-22

The electricity you have used

	Previous Reading	Current Reading	MMF	Units (KWh)	MDI (KW)
Energy - Off Peak	68096	69469	1.000	1373	9
Energy - Peak	13165	13379	1.000	214	8
Reactive Energy Off Peak	9709	9709	1.000	0	
Reactive Energy On Peak	2265	2265	1.000	0	

Your electricity charges for the period

No. of Month(s): 1

	Units	Rate / Unit	Amount
Fixed Charges (kW)	9.000	440	3,960.00
Variable Charges			35,985.28
Off Peak	1373.00	21.87	30,027.51
On Peak	214.00	27.84	5,957.76
Fuel Charges Adjustment			6,842.66
Apr-22	925	5.2718	4,876.41
May-22	747	2.6322	1,966.25
KE Charges			46,787.94
Electricity Duty			856.56
Sales Tax			8,099.57
Further Tax			1,429.34
Extra Tax			8,099.57
Income Tax U/S 235			7,382.76
TVL Fee			60.00
Government Charges			25,927.80

Your Electricity Charges for the Period 72,715.74

Consumers are requested to provide their NTN/CNIC numbers to KE as required by Government of Pakistan. Please call 118 or update your information on www.ke.com.pk/customerdetails or visit your nearest IBC or send SMS for submission of NTN/CNIC. For SMS type 77CNIC-nic#-ntn#-13 digit KE Account Number and SMS to 8119 e.g. CNIC 4230168985910-75141-04000018665423

صارف کی معلومات Customer Information

Consumer No LA727026 Sanc. Load 13
Account No 0400012339176 Conn. Load 13
Security Deposit 37500.00 Tariff A2-B

Billing Statement بیل کی تفصیل

Carry Forward Balance	60,429.50
Payments/Adjustment	-60,430.00
LPS Charged / Waived	3,892.54
Your Electricity Charges for the Period	72,715.74
Outstanding Balance	76,607.77
Amount Payable within Due Date	76,608
Late Payment Surcharge	4,678.79
Amount Payable after Due Date	81,287

In case of any complaint, the consumers are advised to approach K-Electric in the first instance. If the complaint is not resolved, the consumers may file complaint at one of the following options:

NEPRA Regional Office, Karachi:
Office No. 101, 1st Floor, Balad Trade Center, Block No. 3, Bahar Muslim Housing Society, Bahadarabad, Karachi.

OR
Consumer Affairs Department
National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA), Attaturk Avenue (East), Sector G-5/1, Islamabad.

EIK/POI Region-1
Mechanical & Soil Laboratory, Irrigation Building, Adjacent to City School PAF Chapter, Shaheed-e-Millat Road, Baloch Colony, Karachi.


EIK/POI Region-2
Plot No. ST-02, Block-N, Main Sakhi Hasan Chowranghi, North Nazimabad, Karachi

EI/POI Hub, Balochistan
Electric Inspectorate, Irrigation Building, Sakran Road, Hub, District Lasbela, Balochistan. Tel: 0853-310172

OR
Wafaqi Mohtasib (Federal Ombudsman)

Wafaqi Mohtasib Secretariat, Block 4-B, Pakistan Secretariat, Saddar, Karachi
Website for online complaints: www.ombudsman.gov.pk
www.mohtasib.gov.pk
Tel: 021-99202107
Fax: 021-99202121

In case of any complaint regarding non-installation of Distributed Generation/ Net-Metering facility for load upto 25kW; complaints may be filed on NEPRA's online Complaint Management Portal at the following address: <https://nepra.org.pk/CAD-Data-base/CMS-CAD/registern.php>



صارفین کے لیے ضروری ہدایات

- 1 صارف اپنے بجلی کے بیل کی رقم مقررہ تاریخ کے اندر جمع کروانے کا پابند ہے۔ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بیل کی ادائیگی اگلے ماہ کے بیل کے اجراء سے قبل ہی کرنی چاہئے۔
- 2 اگر بجلی کے بیل پر Disconnection لکھا ہے تو اسے موصول ہوتے ہی ادا کر دیا جائے ورنہ قانون کے مطابق بجلی منقطع کر دی جائیگی۔
- 3 صارفین کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ K-Electric (KE) کے بجلی یا کسی بھی دوسرے ٹھیس کو صارفین سے رقم وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا بیلوں کی ادائیگی صرف بیل کے سنبھلنے اور بیل کے ذرائع/طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کی جائے۔
- 4 بیلوں کی ادائیگی کے لئے نقد رقم، پے آرڈر، چیکس یا بینک ڈرافٹس سکرکریٹریٹس کو بھیجیں گے۔
- 5 مالکان مقررہ تاریخ تک بیل ادا کرنے کے پابند ہیں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں، KE اپنے واجبات کی وصولی کے لئے پراپرٹی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- 6 بجلی چوری کرنا، کسی میٹر یا بجلی کو تانبے والے آلات اور مقررہ ترتیب میں گرڈ بڑیادداشت کرنا، میٹرو کے، اس کی رفتار سے کرنے یا میٹر میں دخل اندازی کی کوشش کرنا، الیکٹریسیٹی ایکٹ اور دفعہ جاری قانون کے تحت قابل سزا عمل ہے۔ اس پر جرمانے یا سزایا بدنامی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔
- 7 ایسی کسی بھی صورت میں NEPRA کے قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ میٹر اور دیگر تصحیب کا تحفظ صارف کی ذمہ داری ہے۔ KE اپنے صارفین سے گزارش کرتا ہے کہ ادارے سے متعلق کسی بھی قسم کی بجلی چوری، فراڈ، بدعنوانی یا شکایت کی صورت میں مکمل اور درست تفصیلات کے ساتھ وجہ ذیل ذرائع پر آگاہ کریں speakup@ke.com.pk یا ای بکس 39-B سٹیٹ بیوروڈ فیوڈل انڈسٹریز باؤسنگ اتھارٹی کراچی۔
- 8 صارفین شکایات درج کرنے کے لئے KE لا نیویا، 118 ریپونڈ سنٹر، سکرکریٹریٹس یا customer.care@ke.com.pk پر ای بیل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 9 صارفین بیل موصول نہ ہونے کی صورت میں، بیل کی نقل KE لا نیویا، 8119 پر SMS، KE کی ویب سائٹ www.ke.com.pk، سکرکریٹریٹس پر customer.care@ke.com.pk سے ای بیل کے ذریعے یا 118 پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔
- 10 میٹر ڈیٹنگ حاصل نہ ہونے کی صورت میں، بجلی کے سابقہ اوسط خرچ کی بنیاد پر بیل تیار کیا جائے گا جسے آنے والے بیل میں اصل خرچ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔

11 اگر آپ کے میٹر کو پڑاؤ یا پڑاؤ کی تفصیلات درست نہیں ہیں تو براہ مہربانی سکرکریٹریٹس سے پروف آف میٹرس کے ساتھ رجوع کریں۔

12 بیل خارج موڈ:

کوڈ	وضاحت	تفصیل
NORM	Normal	عام حالات
AVG	Average	جب میٹر ریڈنگ نہیں لی جا سکے
DET	Theft / Detection	جب بجلی چوری کے آثار ملیں/میٹر کی خرابی کے دوران
ADJ	Adjustment	جب صارف کو کچھلے میٹروں سے اوسط بلنگ ہو رہی ہو

13 نوپارٹ میٹرس کی صورت میں، صارف کا اوسط پاور فیکٹور سچائی کے مقام پر 90% سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ نوکورہ پاور فیکٹور 90% سے کم ہونے کی صورت میں صارف پر NEPRA کے قواعد کے مطابق جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

14 کچھ تقابلیات کو متاثر نہ ہونے یا کسی اور انتظامی وجہ سے الگ دکھایا گیا ہے۔ تاہم KE ان واجبات کی وصولی کا قانونی حق محفوظ رکھتا ہے۔

15 TVL ٹیس سے مستثنیٰ فارم KE کی ویب سائٹ کے علاوہ سکرکریٹریٹس پر بھی دستیاب ہے۔ TVL ٹیس چارج کرنے کے ضمن میں، صارفین یہ فارم خود بھی PTV سے تصدیق کر کے سکرکریٹریٹس پر بھیج سکتے ہیں۔ بغیر تصدیق کی صورت میں KE فارم PTV بھیجے گا جہاں تصدیق کا خرچہ 45 دن ہیں۔

16 بیل میں غلطی ہونے کی صورت میں، صارف مناسب وقت کے اندر جو کہ بیل کی تاریخ کے 14 دن سے زیادہ نہ ہو، اسے درست کرالیں۔

17 اپنی میٹرس کی تصدیق میں صارف کے لئے قابل اطلاق قواعد و ضوابط اور ان رجسٹراروں کے انگریزی ترسے کے لئے، صارف KE کی ویب سائٹ یا اپنے قریبی سکرکریٹریٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

18 تمام صارفین کو بذریعہ پناہ مطلع کیا جاتا ہے کہ بجلی KE کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے یہ عموماً کسی دوسرے شخص یا ادارے کو دوبارہ فروخت کے لئے دستیاب نہیں ہوگی۔

19 مستقبل میں NEPRA کی منظوری کے بعد بیل ہونے والے زیر التواء FCA کے واجبات کی تفصیلات کے لئے، براہ کرم KE کی ویب سائٹ www.ke.com.pk پر وزٹ کریں۔

#FarqPartaHai

Get upto **15%** discount on Osaka energy efficient bulbs through foodpanda



Terms & Conditions apply.